



داعش کو سلفی نہیں تو کیا کہیں؟
پڑھیں عرب علماء کا فتویٰ



داعش سلفی نہ ہیں سلفی ہیں



بسم اللہ الرحمن الرحیم

اہل داعش سلفی نہ ہیں سلفی ہیں

مختلف شریپسند ذرائع ابلاغ یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ داعش ایک سلفی تنظیم ہے جب کہ سعودی سلفی علماء کے سابق فتوؤں سے پتہ چلا کہ داعش سلفی نہیں، بلکہ سلفی اور خوارج ہیں، کیونکہ

سلفی تو کتاب و سنت کے پابند رہتے ہیں اور کتاب و سنت میں حکمرانوں کی اطاعت کی ہدایت ہے اور فتنہ و فساد اور دہشت گردی کی ممانعت ہے

غور طلب بات یہ ہے کہ شریک ذرائع ابلاغ نے داعش کو سلفی اور وہابی قرار دیا ، جب کہ امام و مجدد محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دینی خدمات اور اسلامی تعلیمات سے روشناس سعودی حکومت نے نہ صرف داعش کو دہشت گرد قرار دیا بلکہ مختلف ممالک کے تعاون و اتحاد سے اس کے خلاف جنگ بھی جاری رکھی

علاوہ ازیں شیخ عبیدالجابر حفظہ اللہ لکچرار برائے رائل کمیشن الجبیل نے کہا کہ داعش القاعد سے علیحدہ ہوئی اور القاعد کو (مصر کی ممنوعہ دہشت گرد تنظیم) اخوان المسلمین (جس کے معروف مفکر برطانیہ سے سند یافتہ اور تربیت یافتہ سید قطب سے ، جس سے اسامہ بن لادن متاثر تھا) نے قائم کیا اس کی دلیل یہ ہے کہ عراق میں داعش کا بانی ابو مصعب الزرقاوی ہے جو ابو محمد المقدسی کا شاگرد ہے اور محمد المقدسی محمد سرور زین العابدین اور حسن ایوب کا شاگرد ہے ، اور یہ دونوں مصر کی دہشت گرد تنظیم اخوان المسلمین کے بڑے اور معروف مفکرین ہیں علاوہ ازیں مزید توجہ طلب بات یہ ہے کہ داعش وجبہ النصر نے صراحت کی ہے کہ ان کا فکری انحصار سید قطب کی کتابوں پر ہے

مزید فرمایا کہ جس طرح قدیم خوارج کے عقائد توحید میں خلل نہیں تھا اسی طرح داعش کے عقائد توحید کے باب میں بھی خلل نہیں لیکن جس طرح خوارج کی امتیازی خصوصیت علیحدگی اختیار کرنا حکمرانوں کو کافر قرار دینا اور حاکم وقت کی بیعت سے انکار کرنا ہے اسی طرح داعش کی بھی یہی خصوصیت ہے

الذبح الواضح کے لکچرار شیخ احمد السبعی حفظہ اللہ نے کہا کہ داعش کے ایک ہاتھ میں ہتھیار اور دوسرے ہاتھ میں سید قطب کی تفسیر فی ظلال القرآن ہوتی ہے

ملک عراق کے شہر موصل میں واقع فقہ کونسل کے نائب صدر شعبان عبدالکریم نے کہا کہ داعش اقامت دین و عدل کے سہارے مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے جب کہ وہ دین و عدل سے کوسوں دور ہے اور ہم دینی امور کے ذمہ داران ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ داعش خوارج ہیں اور ہمارے دین یا ہم اہل سنت کے نمائندے نہیں ہیں۔

بعض اہل علم نے کہا کہ جب ہم داعش کی جھوٹ اور خیانت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں انہیں منافق کہنا پڑتا ہے اور جب ہم ان کو ناحق کافر قرار دینے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں انہیں خوارج کہنا پڑتا ہے اسی طرح جب ہم ان کے تقیہ کرنے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں انہیں روافض کہنا پڑتا ہے اور جب ہم ان کے ظلم و زیادتی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں انہیں باغی کہنا پڑتا ہے۔

محترم قارئین! ہم نے اس میں کچھ اقوال کو جمع کیا ہے تاکہ لوگوں خاص طور پر سلفی نوجوانوں کے ذہن سے یہ بات نکالی جا سکے کہ داعش سلفی جماعت ہے کیونکہ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ داعش ایک سلفی ہے بلکہ سلفیت کے لبادے میں چھپی ایک شعبد ہے باز جماعت ہے لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ان کی شعبد بازیوں اور ان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ فرمائے آمین یا ارحم الراحمین

وما علینا الا البلاغ المبین